

20653 - ہر پانچ سال بعد حج کرنے کے متعلق حدیث کی صحت اور اسکا مفہوم

سوال

شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح الترغیب والترہیب میں موجود حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے فرمان (جسے اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور وہ ہر پانچ سال میں بیت اللہ کی زیارت نہیں کرتا تو وہ محروم ہے) کو کیسے سمجھیں کیا اس سے مراد حج یا عمرہ یا دونوں مراد ہیں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول :

حدیث کی نص :

عن ابی سعید خدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : قال اللہ : ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت علیہ فی المعیشة تمضی علیہ خمسة اعوام لا یفد الی لمحروم - رواہ ابویعلی (304 / 2) والبیہقی (262 / 5) -

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

میں نے جس بندے کو جسمانی صحت عطا فرمائی اور اس کی معیشت میں وسعت دی تو پھر بھی وہ میرے پاس نہیں آتا تو وہ محروم ہے -

مسند ابویعلی (304 / 2) سنن البیہقی (262 / 5) -

دوم :

اس حدیث پر کلام :

کچھ اہل علم نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ :

ابن عربی مالکی نے اسے موضوع قرار دیا ہے ، اور دوسروں دارقطنی اور عقیلی اور سبکی نے اسے ضعیف کہا ہے

اور ابن حبان اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلۃ احادیث الصحیحة (1662) میں صحیح کہا ہے -

سوم :

بعض علماء نے اس حدیث کے معنی کوچج یا عمرہ پرمحمول کیا ہے ، اسی بنا پر ہیثمی نے اپنی کتاب : موارد الظمان " میں باب باندھتے ہوئے کہا ہے : جوغنی ہونے اورپانچ برس گذرنے کے باوجود حج نہ کرے اس کے متعلق باب -
موارد الظمان (ص 239) -

اوردوسروں نے اسے صرف حج پرمحمول کیا ہے جیسا کہ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں اس کے متعلق باب باندھا ہے (جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کے بارہ میں ترہیب) اھ -

اوربعض علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ ہرپانچ برس میں صاحب استطاعت پرایک بار حج فرض ہے ، لیکن یہ قول صحیح نہیں بلکہ یاتو حدیث کے ضعیف اورصحیح نہ ہونے کی بنا پر یاپہر اس حدیث کواستحباب پرمحمول کرنے نہ کہ وجوب پرتواس کی وجہ سے یہ قول ضعیف ہے -

سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ :

علماء کرام کا اس پراتفاق ہے ہرمکلف عاقل بالغ آزاد صاحب استطاعت مسلمان پر پوری عمر میں صرف ایک بار حج فرض ہے ، لیکن ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ ہرپانچ برس میں ایک بار فرض ہے ، اور یہ قول اس حدیث کے متعلق ہے جونبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے کہ (ہرمسلمان پر پانچ برس میں ایک بار بیت اللہ جانا ضروری ہے) اسے ابن العربی نے بیان کیا ہے -

ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کوروایت کرنا حرام ہے تواس سے حکم کیسے ثابت ہوسکتا ہے - انتھی کلامہ رحمہ اللہ -

اور دارقطنی کا قول ہے کہ : یہ روایت کی ایک طریق سے بیان کی گئی ہے لیکن اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں -
فتاویٰ السبکی (1 / 263) -

اورحطاب کا قول ہے :

اورکچھ شاذ لوگوں کا قول ہے کہ ہرسال واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ہرپانچ برس میں ایک بار واجب ہے اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ (مسلمان ہرپانچ برس میں ایک بار بیت اللہ ضرور جائے) -

ابن العربی کا کہنا ہے کہ :

اس حدیث کو روایت کرنا حرام ہے تو اس سے حکم کیسے ثابت ہوسکتا ہے ؟ ، یعنی کہ یہ حدیث موضوع ہے -

اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ :

یہ اجماع کے خلاف ہے تو اس کے قائل کے خلاف پہلے لوگوں کے اجماع سے حجت قائم ہوچکی ہے - اھ -

تواگرمان بھی لیا جائے کہ یہ وارد ہے تو اسے اس مدت میں استحباب اور تاکید پر محمول کیا جائے گا - دیکھیں :

مواہب الجلیل (2 / 466) -

واللہ تعالیٰ اعلم .